

سوال نمبر 1 ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا چین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے یا کٹ کر بھرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

سوال نمبر	سوالات / Questions	A	B	C	D
1	ابتدائی سرمایہ معلوم کیا جاتا ہے تیار کر کے: The opening capital is ascertained by preparing:	نقد اکاؤنٹ Cash account	ابتدائی گوشوارہ معاملات Opening statement of affairs	کل مقروض کھاتے Total creditor account	کل قرض خواہ کھاتے Total debtor account
2	اندر راج کے اکھر سے نظام کو نہیں اپنا سکتا: Single entry system cannot be maintained by:	واحد ملکیتی کاروبار Sole owner	شرائکی کاروبار Partnership	مشترکہ سرمایہ کی کمپنیاں Joint stock companies	اجمن امداد باہمی کی تنظیم Cooperative society
3	اکھر سے نظام حساب نویسی کے تحت ہر لین دین کا پہلو درج کیا جاتا ہے: Under single entry system aspect of each transaction is recorded:	ایکلا Single	دوہرا Dual	کوئی پہلو نہیں No aspect	تین دفعہ Three times
4	ایک غیر تجارتی ادارہ کے اخراجات آمدنیوں سے بڑھ جائیں تو کہلاتا ہے: The excess of expenditure over income of a non-trading concern is called:	وافر Surplus	خسارہ Deficit	نفع Profit	نقصان Loss
5	رواں سال کے دوران وصول کیا جانے والا چندہ ہوتا ہے: Subscription received during the current year is:	ذمہ داری Liability	اثاثہ An asset	خرچ An expense	آمدنی An income
6	کہیں سے تحفے کی صورت میں ملنے والی رقم کہلاتی ہے: Income received as gift from somewhere is called:	چندہ Subscription	ترکہ Legacy	عطیہ Donation	داخلہ فیس Entrance fee
7	وہ شخص جس کو اشیا فروخت کرنے کے مقصد کے لئے بھیج دیئے جاتے ہیں وہ کہلاتا ہے: The person to whom goods are dispatched for the purpose of sale is called:	مقروض Debtor	قرض خواہ Creditor	کنسائی Consignee	کنسائزر Consignor
8	پروفارما انوائس تیار کرتا ہے: A proforma invoice is prepared by the:	کنسائزر Consignor	کنسائی Consignee	خریدار Buyer	فروخت کار Seller
9	کنسائمنٹ اکاؤنٹ کی نوعیت ہوتی ہے: Consignment account is in nature of:	شخصی حساب Personal account	حقیقی حساب Real account	رقمی حساب Nominal account	ان میں کوئی نہیں None of these
10	ضیاع پذیری صرف معلوم کی جاتی ہے: Depletion is calculated only on:	جنگل Forest	ٹرک Truck	مشینری Machinery	فرنیچر Furniture
11	کاروبار کے لئے فرسودگی ہے: For business depreciation is:	اثاثہ Asset	ذمہ داری Liability	آمدنی Income	خرچ Expense
12	قابل استعمال زندگی کے بعد اثاثہ کی قیمت کہلاتی ہے: Value of an asset after useful life is called:	کتابی قیمت Book value	کھارید قیمت Scrap value	مارکیٹ قیمت Market value	اصل قیمت Original value
13	شرائکی کاروبار میں زیادہ سے زیادہ ممبران کی تعداد ہوتی ہے: The maximum number of partners in partnership business are:	18	15	20	50
14	شرائکی ایکٹ 1932 کے تحت شراکتی کاروبار کی رجسٹریشن ہوتی ہے: As per Partnership Act 1932, the registration of partnership business is:	لازمی Compulsory	اختیاری Optional	عارضی Temporary	ان میں کوئی نہیں None of these
15	شرکت کا ختم ہونا کہلاتا ہے: End of partnership is called:	داخلہ Admission	ریٹائرمنٹ Retirement	ادغام Merger	منسوقی Dissolution
16	گڈول کیا ہوتی ہے؟ Goodwill is:	غیر مرئی اثاثہ Intangible asset	مرئی اثاثہ Tangible asset	ضیاع پذیر اثاثہ Wasting asset	فرضی اثاثہ Fictitious asset
17	حصص کی جو قیمت اسٹاک ایکسچینج میں دکھائی جاتی ہے کہلاتی ہے: The value of shares as quoted on stock exchange is said to be:	اصل قیمت Par value	کتابی قیمت Book value	لاگت کی قیمت Cost value	مارکیٹ کی قیمت Market value
18	کمپنی کے مالک ہوتے ہیں: A company is owned by:	ناظم Directors	حصہ داران Shareholders	پائیان Promoters	انڈر رائٹرز Underwriters
19	پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں ممبران کی زیادہ سے زیادہ تعداد ہوتی ہے: Maximum number of members in private limited company are:	20	7	50	10
20	تمسکات رکھنے والے کمپنی سے وصول کرنے کے حقدار ہوتے ہیں: The debenture holders are entitled to receive from company:	منافع Profit	تنخواہ Salary	مقسوم Dividend	سود Interest

10 Write short answers to any FIVE parts.

2- کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھیے۔

- (i) ایک کاروباری ادارے کا خالص نفع یا نقصان کیا ہوگا اگر ابتدائی سرمایہ پچاس ہزار روپے، اختتامی سرمایہ آٹھ ہزار روپے، زائد سرمایہ بارہ ہزار روپے اور برداشتگی دس ہزار روپے ہو؟
What will be the net profit or loss of business, if capital in the beginning Rs. 50000 ending capital Rs. 8000 fresh capital introduced Rs. 12000 and drawings Rs. 10000?
- Elaborate any two characteristics of single entry system. (ii) سنگل انٹری سسٹم کی دو اہم خصوصیات بیان کیجیے۔
- What is the basic purpose of non-trading concern? (iii) غیر تجارتی ادارے کا بنیادی مقصد بیان کیجیے۔
- Enlightened the word subscription in non-trading concern. (iv) غیر تجارتی ادارے میں لفظ چندہ پر روشنی ڈالئے۔
- Write about the entrance fee. (v) داخلہ فیس کے بارے میں لکھیے۔
- Define consignment account. (vi) حساب مال مرسلہ کی تعریف کیجیے۔
- Define the term ordinary commission. (vii) اصطلاح عام کمیشن سے کیا مراد ہے؟
- Elaborate the unsold stock. (viii) غیر فروخت شدہ مال بیان کیجیے۔

10 Write short answers to any FIVE parts.

3- کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھیے۔

- Explain straight line method of depreciation. (i) فرسودگی کے مساوی اقساط کے طریقے کی وضاحت کیجیے۔
- What is depreciable cost of assets? (ii) اثاثہ جات کی قابل فرسودگی مالیت سے کیا مراد ہے؟
- Define a chartered company. (iii) منشوری کمپنی کی تعریف بیان کیجیے۔
- Compare company and partnership. (any two points) (iv) کمپنی اور شراکت داری میں فرق کے دو نکات لکھیے۔
- Who are the promoters? (v) تشکیل کنندگان کون ہوتے ہیں؟
- Write names of any four types of partnership. (vi) شراکت داری کی کوئی سی چار اقسام کے نام لکھیے۔
- When is the goodwill calculated in partnership? (vii) شراکت داری میں ساکھ کی پیمائش کب کی جاتی ہے؟
- What is meant by dissolution of partnership firm? (viii) شراکتی فرم کے خاتمے سے کیا مراد ہے؟

حصہ دوم، کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہر سوال کے 20 نمبر ہیں۔

Part - II, Attempt any THREE questions. Each question carries 20 marks.

4- رضا اینڈ برادرز اپنی کتب سنگل انٹری سسٹم کے تحت مرتب کرتے ہیں۔ یکم جنوری 2022ء اور 31 دسمبر 2022ء کو ان کی مالی پوزیشن درج ذیل ہے:

Raza and Brothers keep their books on single entry system. Their financial position on 1st January, 2022 and 31st December, 2022 was as follows:

31st. December 2022	1st. January 2022	Account Title	نام لکھاتے
Rs. 3000	Rs. 2000	Cash in hand	نقد رقم
Rs. 2000	Rs. 3000	Cash at bank	بنک بیلنس
Rs. 19000	Rs. 30000	Stock	سٹاک
Rs. 14000	Rs. 8500	Sundry debtors	دین دار کھاتے
Rs. 15000	Rs. 18000	Furniture	فرنیچر
Rs. 270000	Rs. 150000	Machinery	مشینری
Rs. 7000	Rs. 4000	Bills receivable	واجب الوصول بل
Rs. 29000	Rs. 22000	Sundry creditors	لین دار کھاتے
Rs. 1500	Rs. 2000	Bank overdraft	بنک اوورڈرافٹ

سال کے دوران رضا اینڈ برادرز نے ذاتی اخراجات کے لئے 20000 روپے نکلائے اور 10000 روپے نیا سرمایہ کاروبار میں لگایا۔

دیئے گئے اعداد و شمار سے گوشوارہ معاملات اور گوشوارہ نفع و نقصان برائے سال 2022 مرتب کیجیے۔

During the year Raza and Brothers withdrew for personal expenditures Rs. 20000 and introduced further capital of Rs. 10000. From the above figures, prepare statement of affairs and statement of profit and loss for the year 2022.

(جاری ہے)

5۔ لاہور کلب کے وصولیوں اور ادائیگیوں کے کھاتے سے 31 دسمبر 2022ء کا نفع اور نقصان کا کھاتہ تیار کیجیے:

From the receipts and payments accounts of Lahore Club, prepare income and expenditure account for the year ended 31st December, 2022.

Receipts وصولیاں		Payments ادائیگیاں	
Rs. 5000	Balance b/d	Rs. 20000	Salaries تنخواہیں
Rs. 40000	Subscription	Rs. 3000	Repair مرمت
Rs. 12000	Donation عطیہ	Rs. 25000	Rent کرایہ
Rs. 18000	Entrance fees داخلہ فیس	Rs. 5000	Taxes ٹیکسز
Rs. 3000	Interest سود	Rs. 2000	Telephone ٹیلی فون
Rs. 10000	Locker rent لاکر کرایہ	Rs. 10000	Furniture فرنیچر
Rs. 4000	Miscellaneous متفرق	Rs. 27000	Balance c/d
Rs. 92000		Rs. 92000	

اضافی معلومات: (i) چندہ پیشگی وصول کر لیا 2000 روپے (ii) تنخواہیں واجب الادا ہیں 5000 روپے (iii) کرایہ پیشگی ادا کیا ہے 4000 روپے

(iv) فرنیچر پر فرسودگی 5 فیصد سالانہ

Additional information: (i) Subscription received in advance Rs. 2000 (ii) Salaries outstanding Rs. 5000 (iii) Prepaid rent Rs. 4000 (iv) Depreciation on furniture 5% p.a.

6۔ علی نے 500 سیمیں جن کی مالیت ایک لاکھ روپے تھی اکرم کو بھیجیں اور 600 روپے ڈیوری چارجز کی مد میں ادا کئے۔ کنسائنمنٹ مال کی فروخت پر 6% کمیشن کا حق دار ہے۔ اکرم نے علی کو اکاؤنٹ سیل درج ذیل معلومات کے ساتھ بھیجا:

(i) 450 سیمیں 175000 روپے میں فروخت کیں (ii) گودام کا کرایہ 5000 روپے ادا کیا (iii) مبلغ 150000 روپے بذریعہ بینک ڈرافٹ بھیجے۔
مطلوب: کنسائنر کی بک میں جرنل انٹریز پاس کیجیے اور ضروری اکاؤنٹ تیار کیجیے۔

Ali sent 500 sims to Akram costing Rs. 100000 on consignment basis. Ali spent Rs. 600 in dispatching the consignment. Consignee is entitled to receive 6% commission on sale. Akram sent account sale which discloses the following details:

(i) 450 sims sold for Rs. 175000 (ii) Godown rent paid Rs. 5000 (iii) Rs. 150000 remitted through bank draft.

Required: Pass journal entries in the books of consignor and prepare necessary ledger account.

7۔ ایک کمپنی نے ایک مشینری یکم جنوری 2020ء کو 200000 روپے میں خریدی اور اس کی تنصیب پر 5000 روپے خرچ کئے۔ فرسودگی ٹکالنے کی شرح 10 فیصد سالانہ ہے۔
مطلوب: (i) مشینری کی خرید اور پہلے سال کی فرسودگی کی جرنل انٹریز درج کیجیے۔
(ii) فرسودگی کے مقررہ قسط کے طریقہ کے تحت مشینری کا چار سال کا کھاتہ تیار کیجیے۔

A company purchased machinery for Rs. 200000 on 1st January, 2020 and spent Rs. 5000 on its installation. Rate of depreciation is 10% p.a.

Required: (i) Record journal entries for purchase of machinery and depreciation of 1st year.

(ii) Prepare machinery account for four years under fixed installment method.

8۔ عمر اینڈ کمپنی جس کا منظور شدہ سرمایہ 200000 روپے ہے۔ جس کو 20000 حصص بحساب 10 روپے فی حصص تقسیم کیا گیا۔ کمپنی نے 10000 حصص 10% فیصد منافع کے حساب سے عوام کو فروخت کے لئے پیش کئے۔ کمپنی کو 12000 حصص کی درخواستیں وصول ہوئیں۔ وافر 2000 حصص کی درخواستوں کی رقم واپس کر دی گئی۔
مطلوب: (i) جرنل انٹریاں پاس کیجیے۔ (ii) بیلنس شیٹ بنائیے۔

Umer & Company Limited was formed with the authorized capital of Rs. 200000 divided into 20000 shares of Rs. 10 each. The company offers to public for subscription of 10000 shares on 10% premium per share. The company received 12000 shares applications. Excess applications money refunded.

Required: (i) Pass journal entries (ii) Prepare balance sheet

9۔ علی اور قاسم ایک شراکتی کاروبار میں حصہ دار ہیں اور ان کا سرمایہ بالترتیب 100000 روپے اور 50000 روپے ہے۔ معاہدہ کے مطابق علی 2000 روپے ماہانہ تنخواہ کا حقدار ہے۔ ہر حصہ دار کو سرمایہ پر 6 فیصد سود ادا کیا جائے گا۔ باقی منافع 3:2 کی نسبت سے تقسیم کیا جائے گا۔ سال کے دوران فرم نے

125000 روپے منافع کمایا۔ علی نے 20000 روپے اور قاسم نے 15000 روپے ذاتی استعمال کے لئے نکلوائے۔

مطلوب: نفع و نقصان تقسیم کرنے کا کھاتہ اور حصہ داروں کے سرمایہ کھاتے تغیر پذیر طریقے سے تیار کیجیے۔

Ali and Qasim are partners in a partnership business with a capital of Rs. 100000 and Rs. 50000 respectively. According to agreement Ali is entitled salary of Rs. 2000 per month. Interest on capital is allowed at 6% p.a. to each partner. Remaining profit will be distributed in the ratio of 3:2. During the year the firm earned a profit of Rs. 125000. Ali withdrew Rs. 20000 and Qasim Rs. 15000 for personal use.

Required: Prepare profit and loss appropriation account and partners capital accounts under fluctuating capital method.